

112032 - خاوند ملازمت پر مجبور کرتا اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیا طلاق طلب کر لے ؟

سوال

میرے خالو نے میری خالہ سے دوسری شادی کرنے کی اجازت مانگی اور انہیں بتایا کہ عنقریب ان کی رخصتی ہے، مشکل یہ ہے کہ میری خالہ جان پچھلے چند برسوں بیماری کی بنا پر ملازمت نہیں کر سکتی تھیں، لیکن پھر بھی میرے خالو نے انہیں صفائی وغیرہ کا کام کرنے پر مجبور کیا، اور خالو جان خود بھی ملازمت کرتے ہیں، لیکن خالہ کی ساری تنخواہ بھی خود لے کر خالہ کو بہت تھوڑی رقم دیتے۔

اور اس کے ساتھ ساتھ خالہ کو کہا کہ وہ گھر کا کرایہ اور دوسرے اخراجات ادا نہیں کریں گے، خالہ کو زیادہ کام کرنا چاہیے تا کہ وہ یہ سارے اخراجات برداشت کرے، ملازمت کی بنا پر خالہ جان اور زیادہ بیمار ہو گئیں، میری خالہ ہی سارے اخراجات برداشت کرتی ہیں، اور خالو کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ سارے پیسے دوسری بیوی اور اس کی رخصتی پر خرچ کر رہے ہیں۔

ہماری خالہ یا پھوپھی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے بھاگ کر ہمارے گھر میں آ کر رہے گی، یہ پہلی بار نہیں کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے اور ہماری خالہ کو پوچھتا بھی نہیں، لیکن میری خالہ کہتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو آخری موقع دینا چاہتی ہے۔

کیا ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم خالہ کو اپنے پاس رکھ کر انہیں طلاق لینے پر ابھاریں، ہمیں اپنی خالہ کی صحت کی خرابی کا خطرہ ہے وہ بیمار ہیں کیا انہیں طلاق کا حق حاصل نہیں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاوند پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رہائش فراہم کرے اور اسے لباس بھی فراہم کرے اور اس پر خرچ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب بیوی کے حقوق بنائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

انہیں وہیں رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق الطلاق (6) .

ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" خاوند پر لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق بیوی کو رہائش فراہم کرے؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

جہاں تم خود رہتے ہو اپنی قدرت کے مطابق انہیں وہیں رکھو الطلاق (6) .

دیکھیں: محلی ابن حزم (9 / 253) .

اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" عورت کے لیے رہائش دینا واجب ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

انہیں رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق .

اس لیے جب طلاق یافتہ عورت کے لیے رہائش دینا واجب ہے تو پھر جو عورت نکاح میں ہو اسے بدرجہ اولیٰ رہائش مہیا کرنا واجب ہوگی .

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور ان (بیویوں) سے حسن معاشرت اختیار کرو .

اور معروف یعنی اچھے طریقہ سے بود و باش میں یہ بھی شامل ہے کہ بیوی کو رہائش اور مکان مہیا کیا جائے، اور اس لیے بھی کہ رہائش کے بغیر وہ دوسروں کی آنکھوں سے نہیں چھپ سکتی اس لیے رہائش اور مکان مہیا کرنا واجب ہے، اور تصرف اور استمتاع اور سامان کی حفاظت کے لیے بھی رہائش و مکان کی ضرورت ہے "

دیکھیں: المغنی (9 / 237) .

معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا:

عورت کے اپنے خاوند پر کیا حقوق ہیں؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھاؤ، اور جب تم خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو، اور نہ ہی اسے قبیح کہو، اور گھر کے علاوہ اس کے ساتھ کہیں بائیکاٹ نہ کرو "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (2142) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1850) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب

حدیث نمبر (1929) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اس حدیث میں بیوی کے لیے نان و نفقہ اور لباس کا وجوب پایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی معلوم حد نہیں، بلکہ یہ عرف اور عادات کے مطابق ہوگا، اور یہ خاوند کی قدرت و استطاعت کے مطابق ہے۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عورت کا حق قرار دیا ہے تو پھر یہ خاوند کے ذمہ لازم ہوگا، چاہے خاوند گھر میں ہو یا پھر مسافر، اور اگر وہ اسے نہیں پاتا تو پھر یہ اس کے ذمہ قرض ہے حتیٰ کہ اس کی ادائیگی کر دے، جس طرح باقی حقوق زوجیت ادا کرنے ہیں اسی طرح یہ بھی ادا کرنا ہوگا "

دیکھیں: معالم السنن علی بامش المنذری (3 / 67 - 68)۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" عورتوں کے بارہ میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمہ کے ساتھ حلال کیا ہے، اور تمہارے ذمہ اچھے طریقہ سے ان کا کھانا پینا اور لباس ہے "

صحیح مسلم حدیث نمبر (1218)۔

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اس حدیث میں بیوی کا نان و نفقہ اور اس کے لباس کا وجوب پایا جاتا ہے، اور یہ اجماع سے ثابت ہے "

دیکھیں: شرح مسلم (8 / 184)۔

دوم:

ایک سے زائد بیویاں رکھنے والے شخص پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈر اختیار کرتے ہوئے بیویوں کے نان و نفقہ اور لباس اور رات بسر کرنے میں عدل و انصاف سے کام لے، خاوند کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے مابین تقسیم میں ظلم سے کام لے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا و پیروی کرتے ہوئے نان و نفقہ اور لباس میں عدل کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور تقسیم میں عدل کیا کرتے تھے، حالانکہ لوگ تقسیم میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب تھی یا پھر مستحب؟

اور اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ آیا نان و نفقہ میں عدل کرنا واجب تھا یا کہ مستحب؟
اس کا واجب ہونا زیادہ قوی اور کتاب و سنت کے ایشہ ہے "

دیکھیں: مجموع الفتاوی (269 / 32).

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد بیویاں رکھنے والے شخص کو اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کرنے سے بچنے کا کہا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو تو روز قیامت آئیگا تو اس کی ایک سائڈ مائل ہوگی "

سنن ترمذی حدیث نمبر (1141) سنن ابو داؤد حدیث نمبر (2133) سنن نسائی حدیث نمبر (3942) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (1969) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام (3 / 310) اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل (80 / 7) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جس پر مسلمانوں کے علماء ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ آدمی پر اپنی بیویوں کے مابین دن اور رات کی تعداد تقسیم کرے، اور اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس میں عدل و انصاف سے کام لے، اور اس کے لیے اس میں ظلم کرنے کی اجازت نہیں "

دیکھیں: الام (5 / 158).

اور ان کا یہ بھی کہنا ہے:

" میرے علم میں تو اس کا کوئی مخالف نہیں ہے کہ آدمی اپنی بیویوں کے مابین تقسیم کرے اور اس میں اسے عدل و انصاف کرنا چاہیے "

دیکھیں: الام (5 / 280) .

امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اگر آدمی کے پاس ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ آزاد ہوں تو اس پر ان کے مابین تقسیم میں برابری کرنا واجب ہے چاہے وہ مسلمان ہوں یا پھر اہل کتاب سے تعلق رکھتی ہوں... اور اگر وہ تقسیم میں برابری نہیں کرتا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی و معصیت کا مرتکب ہوگا، اس بنا پر مظلوم بیوی کے حق میں فیصلہ کیا جائیگا "

دیکھیں: شرح السنة (9 / 150 - 151) .

سوم:

خاوند کے لیے بیوی کی رضامندی کے بغیر بیوی کی تنخواہ لینا جائز نہیں، شریعت اسلامیہ نے عورت کے لیے مباح کام کی ملازمت کرنا مباح کی ہے۔ لیکن یہ لازم نہیں کیونکہ اس کے اخراجات اور نان و نفقہ تو خاوند کے ذمہ ہیں۔ اور اس مال کی ملکیت بھی عورت کے لیے مباح کی ہے۔

اس لیے اگر وہ اس میں سے کچھ اپنے خاوند کو دیتی ہے تو جائز ہے، لیکن اگر خاوند اپنی بیوی کی رضامندی کے بغیر اس کا مال لیتا ہے تو پھر یہ اس پر حرام ہے۔

شیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" آپ کے لیے اپنی عقل و رشد والی بیوی کی تنخواہ اس کی رضامندی سے لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو رضامندی کے ساتھ وہ بطور تعاون آپ کو پیش کرے اسے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اگر وہ تمہیں اس (مہر) میں سے کچھ دے دیں تو اسے بڑی خوشی سے کھاؤ النساء (4) .

چاہے اس کی رسید نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ آپ کو اس کی رسید بھی دے دے تو اس میں زیادہ احتیاط ہے، کہ آپ کو یہ خدشہ نہ رہے کہ اس کے گھر والے یا پھر کوئی رشتہ دار طلب نہ کرے، یا پھر وہ خود ہی واپس نہ مانگنے لگے "

دیکھیں: فتاویٰ المرأة المسلمة (2 / 672 - 673) .

چہارم:

جب عورت کو علم ہو کہ بیوی کا نان و نفقہ اور رہائش اور لباس خاوند کے ذمہ ادا کرنا واجب ہے، اور بیوی کو علم

ہو کہ خاوند پر اپنی بیویوں میں عدل و انصاف کرنا واجب ہے اور اسے یہ بھی علم ہو کہ خاوند کے لیے حلال نہیں کہ وہ بیوی کو ملازمت کرنے پر مجبور کرے، اور اس کی تنخواہ خاوند کو دے۔

پھر اگر بیوی دیکھے کہ ان سب اشیاء میں یا کسی چیز میں خاوند مخالفت کر رہا ہے تو بیوی کو اختیار حاصل ہے یا تو وہ یہ امید رکھتے ہوئے کہ اس کا خاوند صحیح ہو جائیگا اور اس کی اصلاح ہو جائیگی اس ظلم پر صبر و تحمل سے کام لے۔

یا پھر وہ شرعی عدالت کے ذریعہ اپنا حق حاصل کرے اور اگر نہ تو اس کے خاوند کی اصلاح ہو اور نہ ہی شرعی عدالت کے ذریعہ اسے اپنا حق ملے اور وہ خاوند کے ظلم پر صبر بھی نہ کر سکتی ہو تو پھر اسے طلاق طلب کرنے اور اپنا پورا حق لینے کا حق حاصل ہے۔

لیکن اگر عورت خاوند کی جانب سے حاصل ہونے والی اذیت و ظلم پر صبر کر کے اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے تو یہ اس کے طلاق لینے سے بہتر اور اچھا ہے، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں سے ہر ایک کو خصوصیت حاصل ہے، کہ جس میں کوئی رائے ظاہر کرنے سے قبل اس کو مدنظر رکھنا چاہیے۔

اور اس کے لیے یہاں ممکن ہے کہ وہ اپنے خاندان کے عقل و دانش رکھنے والے رشتہ داروں سے اپنے معاملہ میں مشورہ کرے، یا تو اس کی حالت کی اصلاح ہو جائیگی اور اس کی زندگی بہتر گزرنے لگے گی، اور یا پھر وہ اپنے لیے صبر یا طلاق میں سے کوئی ایک اختیار کر لے، کیونکہ طلاق سے اجتناب کا حکم تو اس وقت ہے جب طلاق کا کوئی شرعی سبب نہ ہو۔

ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس عورت نے بھی اپنے خاوند سے بغیر کسی سبب سے طلاق طلب کی تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے "

سنن ترمذی حدیث نمبر (1187) امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، سنن ابو داود حدیث نمبر (2226) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (2055)۔

واللہ اعلم۔